

## ایمان اور توحید

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا  
لَأَسْأَلَ عَنْهُ أَحَدًا أَبْعَدَكَ (وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِكَ) قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمَ (مسلم)

ترجمہ: حضرت سفیان ابن عبد اللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیں کہ آپ ﷺ کے بعد اس کے متعلق کسی سے نہ پوچھوں (ایک روایت میں غیرک کے لفظ ہیں)۔ فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہوں۔

## چند منتخب احادیث

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْتَانٍ مُّوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا  
دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم)

ترجمہ: جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جو جنت اور دوزخ کو واجب کر دیتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ دو چیزیں واجب کرنے والی کونسی ہیں؟ فرمایا جو شخص مر گیا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے آگ میں داخل ہوگا اور جو شخص مر گیا اللہ سے شریک نہ کرتا ہو، جنت میں داخل ہوگا۔

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ  
الْإِيمَانِ مِنْ رِضَىِ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا (مسلم)

ترجمہ: عباس بن مطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جو راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے پر اور اسلام سے دین ہونے پر اور حضرت محمد ﷺ کے رسول ہونے پر۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (مسلم)  
ترجمہ: عبادہ بن صامت سے روایت ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم ﷺ فرما رہے تھے، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی۔

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (احمد)

ترجمہ: معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ مجھے نبی ﷺ نے فرمایا جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مَا هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم)

ترجمہ: عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی مرے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہوگا۔

### ایمان اور نماز

تَعْبُدُ وَاللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قائم کرو نماز کو اور دوزک کو۔

### چند منتخب احادیث

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ (مسلم)

ترجمہ: جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نمازوں میں بہتر وہ ہے جو لمبے قیام والی ہو

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ

قَطَعْتَ وَحَرِّقْتَ وَلَا تَتْرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا

فَقَدْ بَرَأَ ثَمَنَ الدِّمَةِ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ابوالدرداء سے روایت ہے کہ میرے دوست نے مجھ کو وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اگرچہ تو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور جلایا جائے اور فرض نماز نہ چھوڑ جان بوجھ کر۔ جس نے جان بوجھ کر فرض

نماز ترک کر دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوا اور شراب نہ پی کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

وَاطِيعُوا إِذَا أَمَرْتُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (ترمذی)

ترجمہ: ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی پانچ نمازیں پڑھو۔ اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکم کی تابعداری کرو۔ اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيْقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُّهُ كُفْرٌ "غَيْرِ الصَّلَاةِ" (ترمذی)

ترجمہ: عبداللہ بن شفیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کسی چیز کا عمل چھوڑنے کو کفر نہیں خیال کرتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ "فَاكْثِرُوا الدُّعَاءَ" (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندے کا اپنے رب کے زیادہ قریب ہونا سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے پس دعا بہت کرو۔

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا (احمد)

ترجمہ: ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چرانے کے اعتبار سے بہت بڑے لوگوں میں وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کے رکوع کو پورا نہ کرے اور نہ اس کے سجدہ کو پورا کرے۔

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ "فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ" وَ كُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ "وَ كُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ" وَ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ "وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ" وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ" وَ يُجْزِيءُ مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرُكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (مسلم)

ترجمہ: ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کی ہڈیوں پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ پھر ہر تسبیح صدقہ ہے۔ ہر تحمید صدقہ ہے۔ ہر تہلیل صدقہ ہے۔ ہر تکبیر صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم

کرنا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ان سب سے دو رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جن کو چاشت کے وقت پڑھ لے۔

## ایمان اور احسان

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَكُنْ تَرَاهُ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ہمیں بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے۔

### چند منتخب احادیث

عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَلْقُ عِيَالُ

اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ساری مخلوق اللہ کی عیال (اس کا کنبہ) ہے اس لئے اللہ کو محبوب اپنی مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال (یعنی اس کی مخلوق) کے

ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔

### ایمان اور قیامت

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ النَّبِيُّ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِغَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ

قَرَأَنَّ اللَّهُ عَزْدَةً “عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ (الابن)

ترجمہ: سائل نے عرض کیا ”قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا نبی پاک ﷺ نے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والے، فقیر اور بکریوں کے چرواہوں کو مخلوق میں فخر کرتے دیکھو گے۔

پانچ چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آیت پڑھی تحقیق اللہ کے نزدیک ہے علم قیامت کا اور برسانا مینہ کا۔

### چند منتخب احادیث

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ الزِّنَاوَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ

لِخَمِيْنِ امْرَأَةٌ الْقَيْمِ الْوَاحِدِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھایا جائے گا۔ جہالت زیادہ ہوگی۔ زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی۔ مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں

کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوگی۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ (ابوداؤد، مشکوٰۃ)

ترجمہ: انسؓ سے روایت ہے فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ

كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ (ترمذی، مشکوٰۃ)

ترجمہ: انسؓ سے ہی روایت ہے فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا (یعنی زمانے کے حصے جلد از جلد گزرنے لگیں گے) سال مہینہ کے برابر ہو جائے گا۔ مہینہ، ہفتہ کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن، ایک ساعت کے برابر ہوگا اور ساعت آگ کا ایک شعلہ (اٹھ کر ختم ہونے) کے برابر ہوگی۔

### ایمان اور حیا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْإِيمَانُ بَضْعٌ "وَسَبْعُونَ شُعْبَةً" وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ "مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے "ایمان کی ستر شاخیں ہیں اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔"

### چند منتخب احادیث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ

بَضْعٌ "وَسَبْعُونَ شُعْبَةً" فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا مِطَاطَةٌ

الَّذِي عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ "مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایمان کی چند اور ستر شاخیں ہیں ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور کمترین ایذا کی چیز کا راستہ سے دور کرنا ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "الْحَيَاءُ خَيْرٌ" كُلُّهُ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے "حیا کی ساری قسمیں بہتر ہیں۔"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ

قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفِعَ الْآخَرَ (بیہقی)

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے "ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔"

### ایمان اور حقوق المسلمین

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ

عَبْدٌ "حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی پسند نہ کرے جس کو وہ

خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

### چند منتخب احادیث

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ

يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے۔ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں (کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے)۔

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ

إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ... (مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب مسلمان ایک شخص واحد (کے مختلف اعضاء) کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی اس کا سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ”رَدُّ السَّلَامِ وَ عِبَادَةُ الْمَرِيضِ

وَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ اجَابَةُ الدُّعْوَةِ وَ تَشْمِيثُ الْعَاطِسِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک آنے پر ”یرحمک اللہ“ کہہ کر اس کے لئے دعائے رحمت کرنا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُفُ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحْوِظُهُ مِنْ وَرَائِهِ (ترمذی)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے ضرر کو دفع کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی پاسپانی اور نگرانی کرتا ہے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا۔ اس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی جو (اس کے پیدا کئے ہوئے) انسانوں پر رحم نہ کھائے گا اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے گا۔

ایمان اور علامتِ منافق

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْبِفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذْ تُتَمِّمَنَّ خَانَ وَإِذَا أَحَدَتْ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”چار باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو بدگویی کرے۔“

### چند منتخب احادیث

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ  
 كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْبِفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذْ تُتَمِّمَنَّ خَانَ وَإِذَا أَحَدَتْ  
 كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں کوئی ایک بات کی اس میں نفاق کی ایک بات ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے جب امانت سونپی جاوے خیانت کرے اور جب بات کرے جھوٹ بولے جب عہد کرے تو ڈرے جب جھگڑا کرے تو بدگویی کرے۔

وَعَنْ أَبِي عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعْبُرُ إِلَى هَذِهِ وَاللَّى هَذِهِ مَرَّةً (مسلم)

ترجمہ: ابن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی مثال بکری کی مانند ہے جو دوں یوں کے درمیان پھرتی ہے۔ کبھی ایک طرف چرتی ہے اور کبھی دوسری طرف۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ زَادَ مُسْلِمٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ  
 ”ثُمَّ اتَّفَقَا“ إِذَا أَحَدَتْ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذْ تُتَمِّمَنَّ خَانَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں (مسلم نے زیادہ کیا ہے) اگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھے (پھر دونوں متفق ہو گئے ہیں) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ (الترمذی)

ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتیں حسن خلق اور دین کی سمجھ۔

## چند منتخب احادیث

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ

عَنْهُ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا ثواب موقوف ہو جاتا ہے مگر تین عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے صدقہ جاری یا علم کہ نفع لیا جائے اس کے ساتھ یا صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ

اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (بخاری و مسلم)

ترجمہ: معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے سوائے اس کے نہیں میں بانٹتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ

عَلِمَهُ، ثُمَّ كَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (ترمذی)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سے علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ (ترمذی)

ترجمہ: ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن خیر سے سیر نہیں ہوتا کہ اس کو سنتا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِيثُوا

عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْأَحْرَجِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بخاری)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو کوئی گناہ نہیں ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا پس چاہیے کہ پکڑے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ " آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا

فَسَلَطَهُ، عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ " آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں میں ایک وہ آدمی اللہ نے جسے مال دیا اور حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے اور دوسرا وہ شخص اللہ نے اس کو حکمت دی پس وہ اس کے ساتھ حکم کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔

وَعَنْ سَخْبِرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى (ترمذی)



ترجمہ: سخرہ زدئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص علم طلب کرتا ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا جو اس نے پہلے کئے ہوتے ہیں۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا اتَّوَكَّمْتُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا (ترمذی)

ترجمہ: ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تحقیق لوگ تمہارے تابع ہیں اور تحقیق لوگ زمین کی اطراف سے تمہارے پاس دین حاصل کرنے کیلئے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کے حق میں میری وصیت قبول کرو جھلائی کی۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو علم طلب کرنے کیلئے نکلے وہ راہِ خدا میں ہے یہاں تک کہ لوٹ آوے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ جاہلیت میں ان کے بہتر اسلام میں بہتر ہیں جبکہ سمجھیں۔

وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُعْبِرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ (مسلم)

ترجمہ: سمرہ بن جندب اور معبرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ گمان رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے پس وہ ایک ہے جھوٹوں میں سے۔

## جہاد

### چند منتخب احادیث

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (ابن ماجہ)

ترجمہ: معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جنگ کی جتنی دیر میں اونٹنی کا بچہ دو دو دھوا جاتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔“

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لڑائی ایک دھوکہ ہے۔“

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تُرْجَعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَإِنَّهُ رُجِبُ أَنْ يَرْجَعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى (سنن نسائی)

ترجمہ: سیدنا عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کوئی شخص جان نہیں دیتا جس کے لئے خدا کے نزدیک بہتری ہو جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ آئے اس حالت پر کہ اسے تمام دنیا ملے (یعنی جس کی مغفرت ہوئی اسے دنیا میں دوبارہ آنے کی آرزو نہیں خواہ اسے سنت اقلیم کی بادشاہی کیوں نہ ملے) ہاں مگر شہید یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ واپس آئے اور پھر دوبارہ خدا کی راہ میں شہید کیا جائے۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يُنْعَبُ  
دِمَانِ اللَّوْنِ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمُسْكِ (سنن نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں حضور سرور کوئین ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون گھائل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا جس کا رنگ بظاہر خون جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔“

عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا  
الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ (سنن نسائی)

ترجمہ: سیدنا انسؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ”مشرکین سے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو۔“

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ  
قَاتِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (مسلم)

ترجمہ: جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

وَعَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا وَالْمُشْرِكِينَ  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ بنی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا مشرکوں کے ساتھ اپنی جانوں اور زبانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهْدًا  
إِلَيْهِ قَالَ أَعْرَعَلِي أُنْبَأَ حَبَا حَا وَحَرِّقِ (ابوداؤد)

ترجمہ: عروہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے اسامہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو تائید کی تھی کہ اُنباہ پر صبح کے وقت حملہ کرو اور جلادے۔

## اعتصام

### چند منتخب احادیث

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ  
أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (موطا)

ترجمہ: مالک بن انسؓ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں تم گمراہ نہیں ہو گے جب تک مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے یعنی کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔